

أعمال ليلة النصف من شهر شعبان

*A'maal for the 15th Night of
Sha'aban*

'The Night of Records' (Lailat al-Baraat)

*(Arabic text with English & Urdu Translation & English
Transliteration)*

For any errors / comments please write to: duas.org@gmail.com

Kindly recite Sura E Fatiha for Marhumeen of all those who have worked towards making this small work possible.
To display the font correctly, please use the Arabic font "[Attari Quran Shipped](#)", Urdu font "[Alvi Nastaleeq](#)" & Hindi
font "Mangal". Download font here : <http://www.duas.org/fonts/>

Duas/Aamal on 15 Shaban

1. Recite Du'a (Mafateeh Al Jinaan pg.166) -
“ALLAAHUMMA ANTAL HAYYUL QAYYOOM - -
- -”
2. Recite Du'a (Mafateeh Al Jinaan pg.167) -
“ALLAAHUMMAQ - SIMLANA MIN
KHASHYATIKA - - - -”
3. Recite Du'a (Mafateeh Al Jinaan pg.156) -
“SHAJARATIN - NUBUWWATI - - -”
4. Recite Du'a - e - Kumail (Mafateeh Al Jinaan
pg.62).
5. Recite 100 times - “SUBHAANALLAAHI, WAL-
HAMDU-LILLAAHI,WALLAAHU-AKBAR, WA-
LAA-ILAAHA ILLALLAAH”.

**6. Recite Du'a (Mafateeh Al Jinaan pg.169) -
“ILAAHI TA-ARRADHA LAKA FI HAAZAL-
LAYLI - - - - -”**

**Go in Sajdah and recite Du'a (Mafateeh Al Jinaan pg.169) - “SAJADA-LAKA SAWAADI - - -
- -”**

**Sit and then go in another Sajdah and recite
Du'a (Mafateeh Al Jinaan pg.170) - “A-ODHU
BINOORI WAJ-HIKAL-LADHI - - - - -”.**

**Then keep your RIGHT CHEEK on the Sajdagah
(Mohr) and say :“AFFARTU WAJ-HEE FIT-
TURAAB WA-HUQQALEE AN AS-JUDA LAK”**

**Then keep your LEFT CHEEK on the Sajdagah
(Mohr) and repeat as above.**

2 Rakaat Namaaz

After Surah Al-Hamd recite Surat Al-Kafirun in 1st rakaat and Surat Al-'Ikhlas (Qul huwallaah) in 2nd rakaat. Then recite tasbih in the following sequence:

***SUB-HAANALLAAH (x 33), AL
HAMDU LILLAAH (x 33), ALLAAHU
AKBAR (x 34)..***

Short Du'a
Mafateeh Al Jinaan (Pg. 167)

يَا مَنْ إِلَيْهِ مَلْجَأُ الْعِبَادِ
فِي الْمُهَيَّمَاتِ،

*ya man ilayhi malja'u al`ibadi fi
almuhimmat*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad
and the family of Muhammad.**

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Alláh,
the All-beneficent, the All-merciful.**

شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم

والا ہے

bismi allahi alrrahmini alrrahimi

يَا مَنْ إِلَيْهِ مَلْجَأُ الْعِبَادِ فِي
الْمُهَيِّمَاتِ،

**O He to Whom the servants (of Him)
resort in urgencies**

اے وہ جو مشکل کاموں میں بندوں کی پناہگاہ ہے

ya man ilayhi malja'u al`ibadi fi almuhimmat
i

وَإِلَيْهِ يَفْزَعُ الْخَلْقُ فِي
الْمُلِيمَاتِ،

and to Whom the creatures turn in
ordeals;

اور جس کی طرف لوگ ہر مصیبت کے وقت فریادی ہوتے ہیں

wa ilayhi yafza`u alkhalqu fi almulimmati

يَا عَالِمَ الْجَهْرِ وَالْخَفِيَّاتِ،

**O He Who knows the open and the
hidden matters;**

اے سب چھپی اور کھلی چیزوں کے جاننے والے

ya `alima aljahri wal-khafiyyati

يَا مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِرُ
الْأَوْهَامِ وَتَصَرَّفُ الْخَطَرَاتِ،

**O He from Whom neither the ideas of
illusions nor the initiatives of delusions
can be concealed;**

اے وہ جس پر لوگوں کے وہم و خیال اور دلوں میں گردش
کرنے والے اندیشے بھی پوشیدہ نہیں

***ya man la takhfa `alayhi khawatiru alawhami
wa tasarrfu alkhatarati***

يَا رَبُّ الْخَلَائِقِ وَالْبَرِيَّاتِ،

O the Lord of creatures and beings;

اے مخلوقات و موجودات کے پروردگار

ya rabbi alkhala'iqi wal-bariyyati

يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
الْأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ،

**O He Who grasps the kingdoms of the
earth and the heavens;**

اے وہ ذات کہ زمینوں اور آسمانوں کی حکمرانی جس کے
قبضہ قدرت میں ہے

***ya man biyadihi malakutu alaradina wal-
ssamawati***

أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

**You are verily Allah; there is no god
save You;**

تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں

anta allahu la ilaha illa anta

أُمَّتُ إِلَيْكَ بِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ،

I thus try to connect with you in the name of 'There is no god save You'

میں تیری طرف متوجہ ہوں اس لیے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں

amutt ilayka bila ilaha illa anta

فَيَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اجْعَلْنِي
فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

**So, O He save Whom there is no god:
(please) include me at this night**

تیرے سوا کوئی معبود نہیں اس رات میں (اللہ) پس اے

***faya la ilaha illa anta aj`alny fi
hadhihi allaylati***

مِمَّنْ نَظَرْتُ إِلَيْهِ فَرَحِمْتَهُ،

**with those at whom You have looked
and thus You have mercy upon them;**

مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن پر تو نے نظر کرم فرمائی
تو نے ان پر مہربانی کی

mimmn nazarta ilayhi farahimtahu

وَسَمِعْتَ دُعَاءَهُ فَأَجَبْتَهُ،

and with those whose prayers have
been heard by You and thus You
have responded to them;

ان کی دعا سنی تو نے اور اسے شرف قبولیت بخشا

wa sami`ta du`a`ahu fa-ajabtahu

وَعَلِمْتَ اسْتِغْلَالَتَهُ فَأَقَلَّتَهُ،

**and with those whose true repentance
has been admitted by You and thus
You have accepted it;**

تو ان کی پشیمانی سے آگاہ ہوا تو انہیں معاف کر دیا

wa `alimta astiqalatahu fa-aqaltahu

وَتَجَاوَزْتَ عَنْ سَالِفِ
خَطِيئَتِهِ وَعَظِيمِ جَرِيرَتِهِ،

and You have thus overlooked their
past sins and enormous offenses.

اور ان کے سب پچھلے گناہوں اور بڑے بڑے جرائم پر عفو
و درگذر سے کام لیا

*wa tajawazta `an salifi khatiiatihi wa
`azimi jariratihi*

فَقَدِ اسْتَجَرْتُ بِكَ مِنْ
ذُنُوبِي،

**verily, I am seeking Your shelter
against my sins,**

پس میں اپنے گناہوں سے تیری پناہ کا طالب ہوں

faqadi astajartu bika min dhunubi

وَلَجَأْتُ إِلَيْكَ فِي سِتْرِ
عُيُوبِي .

and I am resorting to You so that You
may conceal my defects.

اور اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کے لیے تجھ سے التجا کرتا
ہوں

wa lajatu ilayka fi satri `uyubi

اللَّهُمَّ فَجُدْ عَلَيَّ بِكَرَمِكَ
وَفَضْلِكَ،

**O Allah: (please) bestow lavishly upon
me with Your generosity and Favor;**

مجھ پر اپنے فضل و کرم سے عطا و بخشش فرما! اے معبود

*allahumma fajud `alayy bikaramika
wa fadlika*

وَاحْطُطْ خَطَايَايَ بِحِلْمِكَ
وَعَفْوِكَ،

and condone my misdeeds out of Your
forbearance and pardon,

اور اپنی نرم خوئی اور درگزر کے ذریعے میری خطائیں بخش
دے

wahtut khataiaiya bihilmika wa `afwika

وَتَغَمَّدَنِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ
بِسَابِغِ كَرَامَتِكَ،

and encompass me, at this night, with
Your opulent honoring,

س رات میں مجھ کو اپنے انتہائی کرم کے سائے تلے لے لے

*wa taghammdny fi hadhihi
allaylati bisabighi karamatika*

وَاجْعَلْنِي فِيهَا مِنْ أَوْلِيَاءِكَ
الَّذِينَ أَحْتَبَبْتَهُمْ لِيَطَاعَتِكَ،

and include me at this night with Your
intimate servants whom You have
selected for obeying You,

اور اس شب میں مجھے اپنے ان پیاروں میں قرار دے جن کو
تو نے اپنی فرمانبرداری کیلئے پسند کیا

*waj`alny fiha min awlia'ika
alladhina ajtabaytahum lita`atika*

وَاخْتَرْتَهُمْ لِعِبَادَتِكَ،

and whom You have chosen for
worshipping You,

اپنی عبادت کے لیے چنا

wakhtartahum li`ibadatika

وَجَعَلْتَهُمْ خَالِصَاتَكَ
وَصِفْوَاتَكَ.

and whom You have made Your elite
and select people.

اور ان کو اپنے خاص الخاص اور برگزیدہ بنایا ہے

wa ja`altahum khalisataka wa sifwataka

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ سَعَدَ
جَدَّهُ،

**O Allah: (please) make me of those
whose efforts are of a happy end,**

مجھے ان لوگوں میں قرار دے جنکا نصیب اچھا! اے معبود

allahumma aj`alny mimmn sa`ada jadduhu

وَتَوَفَّرَ مِنَ الْخَيْرَاتِ حَظُّهُ،

and those whose shares of good things are big,

اور نیک کاموں میں جن کا حصہ زیادہ ہے

wa tawaffra mina alkhayrati hazzuhu

وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ سَلِمَ
فَنَعِمَ، وَفَازَ فَعْنِمَ،

and make me of those who enjoy blissful
life as they have been safe (from sins) and
those who have been awarded excellently
as they have won,

اور مجھے ان لوگوں میں رکھ جو تندرست، نعمت یافتہ، کامران
اور فائدہ پانے والے ہیں

*waj`alny mimmn salima fana`ima wa faza fa
ghanima*

وَإِكْفِينِي شَرَّ مَا أَسْلَفْتُ،

and rescue me from the evil
consequences of what I have
committed,

بچا سے شر کے اس کیا نے میں کچھ جو اور

wakfiny sharr ma aslaftu

وَاعْصِمْنِي مِنَ الْإِزْدِيَادِ فِي
مَعْصِيَتِكَ،

and save me from doing more acts of
disobedience to You,

رکھ محفوظ سے جانے بڑھ میں نافرمانی اپنی مجھے

wa`simny mina alazdiadi fi ma`siyatika

وَحَبِّبْ إِلَيَّ طَاعَتَكَ وَمَا
يُقَرِّبُنِي مِنْكَ وَيُزِلْفُنِي عِنْدَكَ.

and make me love the acts of obedience to
You and whatever draws me near You and
approaches me toward You.

مجھے اپنی فرمانبرداری کا شوق دے اور اسکا جو مجھے
تیرے قریب کرے اور مجھے تیرا پسندیدہ بنائے

*wa habbib ilayya ta`ataka wa ma
yuqarribuny minka wa yuzlifuny `indaka*

سَيِّدِي إِلَيْكَ يَلْجَأُ الْهَارِبُ،

**O my Master: a quick resort to none
save You,**

میرے سردار، بھاگنے والا، تیرے ہاں پناہ لیتا ہے

sayyidy ilayka yalja'u alharibu

وَمِنْكَ يَلْتَمِسُ الطَّالِبُ،

and a needy begs none save You,

طلبگار تیرے حضور عرض کرتا ہے

wa minka yaltamisu alttalibu

وَعَلَىٰ كَرَمِكَ يُعْوَلُ الْمُسْتَقِيلُ
النَّائِبُ،

and only on Your generosity does a
repentant, contrite one depends

ور پشیمان ہونے اور توبہ کرنے والا تیرے فضل و کرم پر
بھروسہ کرتا ہے

*wa `ala karamika yu`awwilu almustaqilu altt
a'ibu*

أَدَّبْتَ عِبَادَكَ بِالتَّكْرَمِ وَأَنْتَ
أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ،

You have disciplined Your servants by means of generosity; and You are verily the most Generous of all those who are generous.

تو اپنی کریمی و مہربانی سے بندوں کی پرورش کرتا ہے اور
تو سب سے زیادہ کرم کرنیوالا ہے

***addabta `ibadaka bilttakarrumi wa anta
akramu alakramina***

وَأَمَرْتَهُ بِالْعَفْوِ عِبَادَكَ وَأَنْتَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

and You have instructed Your servants to
pardon; and You are verily the All-
forgiving, the All-merciful.

تو نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا حکم دیا اور تو بہت
بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

*wa amarta bil`afui `ibadaka wa
anta alghafuru alrrahimu*

اللَّهُمَّ فَلَا تَحْرِمْنِي مَا رَجَوْتُ
مِنْ كَرَمِكَ،

**O Allah: (please) do not deprive me of
Your generosity for which I hope,**

پس میں نے تیرے کرم کی جو امید لگا رکھی ہے اس! اے معبود
سے محروم نہ کر

***allahumma fala tahrimny ma rajawtu min ka
ramika***

وَلَا تُؤْيِسْنِي مِنْ سَابِغِ
نِعْمِكَ،

and do not make me despair of Your
opulent bounties,

مجھے اپنی کثیر نعمتوں سے ناامید نہ ہونے دے

wa la tu iisny min sabighi ni`amika

وَلَا تُخَيِّبْنِي مِنْ جَزِيلِ قِسْمِكَ
فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِأَهْلِ طَاعَتِكَ،

and do not disappoint me of Your abundant
sustenance that You decide, this night, for
those who are obedient to You,

اور آج کی رات اس بیشتر عطا سے محروم نہ کر جو تو نے اپنے
فرمانبرداروں کیلئے مقرر کی ہوئی ہے

*wa la tukhayybny min jazili qisamika fi hadhihi
allaylati liahli ta`atika*

وَاجْعَلْنِي فِي جُنَّةٍ مِنْ شِرَارِ
بَرِيَّتِكَ،

and include me with Your protection
against Your evil creatures.

اور مجھے اپنی مخلوق کی اذیتوں سے امان میں قرار
رکھ

waj`alny fi junnatin min shirari bariyyatika

رَبِّ إِنِّ لَم أَكُنْ مِنْ أَهْلِ
ذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلُ الْكَرَمِ

**O my Lord: If I do not deserve so, then You are
worthy of acting generously to me,**

اگر میں اس سلوک کے لائق نہیں پس تو مہربانی! میرے پروردگار
کرنے

***rabbi in lam akun min ahli dhalika fanta ahlu
alkarami***

وَالْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ،

and pardoning and forgiving me,

معافی دینے اور بخش دینے کا اہل ہے

wal-`afui wal-maghfirati

وَجُدْ عَلَيَّ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ لَا
بِمَا أَسْتَحِقُّهُ،

and (please) bestow upon me magnanimously
according to that which befits You, not
according to what I deserve,

اور مجھ پر ایسی بخشش فرما جو تیرے لائق ہے نہ وہ کہ جس کامیں
حقدار ہوں

*wa jud `alayya bima anta ahluhu la bima
astahiqquhu*

فَقَدْ حَسُنَ ظَنِّي بِكَ،

verily, I carry an excellent opinion
about You,

پس میں تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہوں

faqad hasuna zanni bika

وَتَحَقَّقْ رَجَائِي لَكَ،

and I do hope for You,

میری امید تجھی سے لگی ہوئی ہے

wa tahaqqqa rajaiy laka

وَعَلَّقْتُ نَفْسِي بِكَرَمِكَ

and my self is hanged to the rope of
Your generosity,

ور میرا نفس تیرے کرم سے تعلق جوڑے ہوئے ہے

wa `aliqat nafsi bikaramika

فَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،

**for You are verily the most Merciful of
all those who show mercy,**

جبکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا

fa-anta arhamu alrrahimina

وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ .

**and You are the most Generous of all
those who are generous.**

ہے کرنیوالا مہربانی کر بڑھ سے سب اور

wa akramu alakramina

اللَّهُمَّ وَاخْصُصْنِي مِنْ
كَرَمِكَ بِجَزِيلٍ قِسْمِكَ،

O Allah: (please) confer upon me exclusively with
an abundant share of what You decide, out of
Your generosity,

مجھے اپنی مہربانی و بخشش سے زیادہ حصہ دینے میں! اے معبود
خصوصیت عطا فرما

*allahumma wakhsusny min karamika bijazili
qisamika*

وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ،

and I seek refuge with Your pardon
against Your chastisement,

اور میں تیرے عذاب سے، تیرے عفو کی پناہ لیتا ہوں

wa a`udhu bi`afwika min `uqubatika

وَاعْفِرْ لِي الذَّنْبَ الَّذِي
يَحْبِسُنِي عَلَيَّ الْخُلُقِ،

and (please) forgive me the sin that prevents me
from enjoying high morals,

میرا وہ گناہ بخش دے کہ جس نے مجھ کو بدخلقی میں پھنسا دیا

*wa ghfir liya aldhhdhanba alladhy yahbisu
`alayya alkhuluqa*

وَيُضَيِّقُ عَلَيَّ الرِّزْقَ

and suppresses my sustenance,

اور میری روزی میں تنگی کا باعث ہے

wa yudayyiqu `alayya alrrzqa

حَتَّى أَقُومَ بِصَالِحِ رِضَاكَ،

**so that I will do that which excellently
achieves Your satisfaction**

تا کہ میں تیری بہترین رضا حاصل کر سکوں

hatta aquma bisalihi ridaka

وَأَنْعَمَ بِجَزِيلٍ عَطَائِكَ،

and I will enjoy Your profuse granting,

تو اپنی مہربانی سے مجھے نعمتیں عنایت فرما

wa an`ama bijazili `ata'ika

وَأَسْعَدَ بِسَابِغِ نِعْمَائِكَ،

and I will be delighted by Your
abundant bounties.

ور اپنی کثیر نعمتوں سے مجھے بہرہ مند کر دے

wa as`ada bisabighi na`ma`ika

فَقَدُّ أَدْتُ بِحَرَمِكَ،

I am having recourse to Your sanctity,

کیونکہ میں نے تیرے آستان پر پناہ لی

faqad ludhtu biharamika

وَتَعَرَّضْتُ لِكِرَامِكَ،

and I am asking for Your generosity,

اور تیری بخشش کی امید لگائے ہوں

wa ta`arradtulikaramika

وَاسْتَعَذْتُ بِعَفْوِكَ مِنْ
عُقُوبَتِكَ،

and I am taking shelter in Your pardon
against Your punishment,

اور میں تیرے عذاب سے عفو کی پناہ لیتا ہوں

wasta`adhtu bi`afwika min `uqubatika

وَبِحِلْمِكَ مِنْ غَضَبِكَ،

and in Your forbearance against Your
ire.

اور تیرے غضب سے تیری نرم خوئی کی پناہ لیتا ہوں

wa bihilmika min ghadabika

فَجُذُ بِمَا سَأَلْتُكَ،

**So, (please) bestow upon me
generously with that which I have
asked from You,**

پس مجھے وہ دے جس کا میں نے تجھ سے سوال کیا
ہے

fajud bima sa-altuka

وَأَنْزِلْ مَا أَلْتَمَسْتُ مِنْكَ،

**and confer upon me with that which I
have begged from You,**

اس میں کامیاب کر جس کی تجھ سے خواہش کی ہے

wa anil ma altamastu minka

أَسْأَلُكَ بِكَ لَا بِشَيْءٍ هُوَ
أَعْظَمُ مِنْكَ.

**I beseech You in Your name, since
there is nothing great that You are.**

میں تجھ سے تیرے ہی ذریعے سوال کرتا ہوں کہ تجھ
سے بزرگتر کوئی چیز نہیں ہے

***asaluka bika la bishay'in huwa a`zamu
minka***

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad**

and the family of Muhammad.

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

***PLEASE GO INTO
SAJDAH***

***And recite the
following:***

Recite 20 times

يَا رَبِّ.

O my Lord!

اے میرے معبود

ya rabb(i)

Recite 7 times

يَا اللَّهُ.

O Allah!

اللَّهُ اے

ya allah(u)

Recite 7 times

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

**There is neither might nor power save
with Allah.**

اے پروردگار اے معبود نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ
جو اللہ سے ہے

la hawla wala quwwata illa billah(i)

Recite 10 times

مَا شَاءَ اللَّهُ.

Only that which Allah wants (will be).

مَا شَاءَ اللَّهُ

ma sha'allah(u)

Recite 10 times

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

There is no power save with Allah.

نہیں کوئی قوت مگر خدا کی

la quwwata illa billahi

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad
and the family of Muhammad.**

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

حاجات

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

و خدای شما فرمود که مرا با (خلوص نیت) بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم

سوره طه آیه ۶۰

Ziyarat of Imam Hussein

(A)

Mafateeh Al Jinaan

(pg. 438)

**Please rise & face towards
Karbala**

***Please recite Two
Rakaat Salaat
Hadiya Ziyarat***

***Namaaz -e-
Ja'afar-e-Tayyaar***

**Method of reciting Namaaz -e- Ja'afar-e-Tayyaar
4 rakaats (2 Namaaz x 2 rakaats each). Following
Surah to be recited after Surah Al-Hamd of each
rakaat**

- A) 1st namaaz Surah Al-Zilzaal in 1st rakaat and
Surah Al-Aadiyaat in 2nd rakaat.**
- B) 2nd namaaz Surah An-Nasr in 1st rakaat and
Surah Al-Ikhlaas in 2nd rakaat.**

**In addition 75 x Tasbihaate Arbaa have to be
recited in EACH rakaat in following positions**

- A) 15 x after Qira'at.**
- B) 10 x in each of these 6 positions - in Ruku, after
ruku, in each Sajdah, after each Sajdah.**

**Note : In the last Sajdah – i.e. 2nd Sajdah of 4th
Rakaat (after Dhikr and 10 *Tasbihaate Arba*) a short
Du'a has to be recited.**

Short Du'a
Mafateeh Al Jinaan (Pg. 166)

اللَّهُمَّ بِحَقِّ لَيْلَاتِنَا هَذِهِ
وَمَوْلُودِهَا

allahumma bihaqqi laylatina hadhihi
wa mawludiha

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad
and the family of Muhammad.**

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Alláh,
the All-beneficent, the All-merciful.**

bismi allahi alrrahmini alrrahimi

اللَّهُمَّ بِحَقِّ لَيْلَاتِنَا هَذِهِ
وَمَوْلُودِهَا

**O Allah: I beseech You in the name of
this night and in the name of him
whom was born at it**

اور اس کے مولود واسطہ ہماری اس رات کا! اے معبود
کا

***allahumma bihaqqi laylatina hadhihi wa
mawludiha***

وَحُجَّتِكَ وَمَوْعُودِهَا،

**and in the name of Your Argument and
in the name of Your promise in it,**

کا (ع) اور اس کے موعود (ع) اور تیری حجت

wa hujtika wa maw`udiha

الَّتِي قَرَنْتَ إِلَيَّ فَضْلَهَا فَضْلاً،

**the night that You have added a new
merit to its many merits**

جس کو تو نے فضیلت پر فضیلت عطا کی

allaty qaranta ila fadliha fadlan

فَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،

**So, Your Word has been accomplished
truly and fairly;**

اور تیرا کلمہ صدق و عدل کے لحاظ سے پورا ہو گیا

fatammt kalimatuka sidqan wa `adlan

لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِكَ،

no one can change Your words,

تیرے کلموں کو بدلنے والا کوئی نہیں

la mubaddla likalimatika

وَلَا مُعَقَّبٍ لآيَاتِكَ،

nor obscure Your signs,

اور نہ کوئی تیری آیتوں کا مقابلہ کرنیوالا ہے

wa la mu`aqqba li-ayatika

نُورُكَ الْمُتَالِقُ،

(He is) Your glowing Light

تیرا نور تابان اور ((ع)مہدی موعود) وہ

nuruka almutalliqu

وَضِيَاؤُكَ الْمُسْرِقُ،

and Your bring splendor

ہے روشنی جہلملاتی

wa dçau ́ uka almushriqu

وَالْعَلَمُ النُّورُ فِي طَخْيَاءِ الدَّيْجُورِ ،

**and the luminous sign in the obscurity
of darkness**

وہ نور کا ستون، شان والی سیاہ رات کی تاریکی میں

wal-`alamu alnnuru fi takhya'i alddayjuri

الْغَائِبُ الْمَسْتُورُ

and the absent and the concealed,

پنہاں و پوشیدہ ہے

algha'ibu almasturu

جَلَّ مَوْلِدُهُ، وَكَرُمَ مَخْبِئَتُهُ،

**Lofty is his birth and noble is his
lineage**

اس کی ولادت بلند مرتبہ ہے اس کی اصل

jalla mawliduhu wa karuma mahtiduhu

وَالْمَلَائِكَةُ شُهَدَاؤُهُ،

and the angels are his witnesses

فرشتے اس کے گواہ ہیں

wal-mala'ikatu shuhhaduhu

وَاللَّهُ نَاصِرُهُ وَمُوَيْدُهُ،

and Allah is his Supporter and Backer

اور اللہ اسکا مددگار و حامی ہے

wallahu nasiruhu wa mu'ayyduhu

إِذَا آتَىٰ مِيعَادَهُ وَالْمَلَائِكَةُ
أَمْدَادُهُ،

**when his time comes and the angels
shall be his sponsors;**

جب اس کے وعدے کا وقت آئے گا اور فرشتے اس کے
معاون ہیں

***idha ana mi`aduhu wal-mala'ikatu
amdaduhu***

سَيْفُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَنْبُو،

**(He shall act as) the sword of Allah
that shall never miss the target,**

وہ خدا کی تلوار ہے جو کاند نہیں ہوتی

sayfu allahi alladhy la yanbu

وَنُورُهُ الَّذِي لَا يَخْبُو،

**and His light that shall never be
extinguished**

اور اس کا ایسا نور ہے جو ماند نہیں پڑتا

wa nuruhu alladhy la yakhbu

وَذُو الْحِلْمِ الَّذِي لَا يَصْبُو،

**And the forbearing person who shall
never deviate the truth.**

وہ ایسا بردبار ہے جو حد سے نہیں نکلتا

wa dhu alhilm alladhy la yasbu

مَدَارُ الدَّهْرِ ،

**and the motive and reason of the
course of events,**

وہ ہر زمانے کا سہارا ہے

madaru alddhri

وَنَوَامِيسُ الْعَصْرِ،

**and the one for whom the laws of ages
have been made**

ہر عہد کی عزت (ع) یہ معصومین

wa nawamisu al`asri

وَوُلَاةُ الْأَمْرِ،

and (one of) the men of authority

اور واليان امر ہيں

wa wulatu alamri

وَالْمُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مَا يُتَنَزَّلُ فِي
لَيْلَةِ الْقَدْرِ،

who receive that which is revealed on
the Grand Night.

جو کچھ شبِ قدر میں نازل کیا جاتا ہے انہی پر نازل ہوتا

*wal-munazzalu `alayhim ma yatanazzalu fi
laylati alqadri*

وَأَصْحَابُ الْحَشْرِ وَالنُّشْرِ،

and the managers of the Resurrection
and the Account;

وہی حشر و نشر میں ساتھ دینے والے

wa ashabu alhashri wal-nnashri

تَرَاجِمَهُ وَحْيِهِ،

**(They are) the interpreters of His
revelations**

اس کی وحی کے ترجمان

tarajimatu wahyih

وَوُلاَةُ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

**and in charge of what is deemed lawful
and what is deemed unlawful by Him.**

اور اس کے امر و نہی کے نگران ہیں

wa wulatu amrihi wa nahiihi

اللَّهُمَّ فَصِّلْ عَلَيَّ خَاتِمِهِمْ
وَقَائِمِهِمْ

**O Allah: send blessings on their seal
and their Riser**

پس ان کے خاتم اور ان کے قائم پر رحمت ! اے معبود
فرما

***allahumma fasalli `ala khatimihim wa
qa'imihim***

الْمَسْتُورِ عَنْ عَوَالِمِهِمْ .

whom is hidden from their world.

جو اس کائنات سے پوشیدہ ہیں

almasturi `an `awalimihim

اللَّهُمَّ وَأَدْرِكْ بِنَا أَيَّامَهُ
وَزُحُورَهُ وَقِيَامَهُ،

O Allah: (please) make us causes for the coming of him, and causes for his advent and reappearance

ہمیں اس کا زمانہ اس کا ظہور اور قیام دیکھنا! اے معبود
نصیب فرما

***allahumma wa adrik bina
ayyamahu wa zuhuruha wa qiyamahu***

وَأَجْعَلْنَا مِنْ أَنْصَارِهِ،

**and (please) include us with his
supporters**

اور ہمیں اس کے مددگاروں میں قرار دے

waj`alna min ansarihi

وَأَقْرِنِ ثَأْرَنَا بِثَأْرِهِ،

and join our vengeance to his

ہمارا اور اس کا انتقام ایک کر دے

waqrin tha'rana bitha'rihi

وَإِكْتُبْنَا فِي أَعْوَانِهِ
وَخُلَصَائِهِ،

**and decide us to be among his
assistants and retinue.**

اور ہمیں اسکے مددگاروں اور مخلصوں میں لکھ دے

waktubna fi a`wanihi wa khulasa`ihi

وَأُحْيِنَا فِي دَوْلَتِهِ نَاعِمِينَ،

and make us live in bliss in his reign,

ہمیں اسکی حکومت میں زندگی کی نعمت عطا کر

wa ahiinafi dawlatihi na`imina

وَبِصُحْبَتِهِ غَانِمِينَ،

**and make us win the ecstasy of his
companionship,**

اور اسکی صحبت سے بہرہ یاب فرما

wa bisuhbatihi ghanimina

وَبِحَقِّهِ قَائِمِينَ ،

and make us of those who carry out
our duty toward him,

اسکے حق میں قیام کرنیوالے

wa bihaqqhi qa'imina

وَمِنَ السُّوءِ سَالِمِينَ،

and save us from evil.

دے توفیق کی رہنے محفوظ سے برائی اور

wa mina alssu'l salimina

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ،

**O the most Merciful of all those who
show mercy.**

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے
yaarhama alrrahimina

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

**All praise be to Allah, Lord of the
worlds.**

اور حمد اللہ ہی کیلئے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے

walhamdu lillahi rabbi al`alamina

وَصَلَوَاتُهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

**His blessings be upon our master,
Muhammad**

اور اسکی رحمتیں ہوں ہمارے سردار محمد پر

wa salawatuhu `alasyaydinamuhammadin

خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ

**the seal of the Prophets and the
Messengers,**

جو نبیوں اور رسولوں کے خاتم ہیں

khatami alnnabiyyina wal-mursalina

وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الصَّادِقِينَ

and upon his Household, the
veracious,

اور انکے اہل پر جو ہر حال میں سچ بولنے والے ہیں

wa `alaahli baytihi alssadiqina

وَعِزَّتِهِ النَّاطِقِينَ،

**and his offspring, the spokespersons
of the truth,**

اور انکے اہل خاندان پر جو حق کے ترجمان ہیں

wa `itratihi alnnatiqina

وَأَنْعَنْ جَمِيعَ الظَّالِمِينَ،

and withhold blessings from all the
wrongdoers

اور لعنت کر تمام ظلم کرنے والوں پر

wal-`an jami`a alzzalimina

وَاحْكُم بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

and judge between them and us

اور فیصلہ کر ہمارے اور ان کے درمیان

wahkum baynanawa baynahum

يَا أَهْكَمَ الْأَهَكِمِينَ .

O the Most Just of all judges.

اے سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والے۔

ya ahkama alhakimina

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Alláh,
the All-beneficent, the All-merciful.**

bismi allahi alrrahmini alrrahimi

Short Du'a
Mafateeh Al Jinaan (Pg. 166)

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْهَيُّ الْقَيُّومُ

allahumma anta alhayyu alqayyumu

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad
and the family of Muhammad.**

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Alláh,
the All-beneficent, the All-merciful.**

bismi allahi alrrahmini alrrahimi

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

**O Allah: You are verily the Ever-living,
the Self-Subsisting,**

تو زنده و پائنده، بلندتر، اے معبود

allahumma anta alhayyu alqayyumu

الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

the Most High, the All-great,

بلندتر

al`aliyyu al`azimu

الْخَالِقُ الرَّازِقُ

the Creator, the Sustainer,

بزرگتر خلق کرنے والا، رزق دینے والا

alkhaliq alrraziqu

الْمُحْيِي الْمُمِيتُ

the Giver of live, the Causer of death,

زندہ کرنے والا، موت دینے والا

almuhiy almumitu

الْبَدِيءُ الْبَدِيعُ،

the Originator, the Maker.

آغاز کرنے اور ایجاد کرنے والا ہے

albadī'ū albadī`ū

لَكَ الْجَلَالُ،

To You is the Majesty

تیرے لیے جلالت

laka aljalalu

وَلَاكَ الْفَضْلُ،

and to You is the favor,

اور تیرے ہی لیے بزرگی ہے

wa laka alfazlu

وَلَاكَ الْحَمْدُ،

and to You is all praise,

تیری ہی حمد ہے

wa laka alhamdu

وَلَكَ الْمَنُّ،

and to You is thanks,

اور تو ہی احسان کرتا ہے

wa laka almann

وَلَاكَ الْجُودُ،

and to You is magnanimity,

اور تو ہی سخاوت والا ہے

wa laka aljudu

وَلَكَ الْكَرَمُ،

and to You is generosity,

تو ہی صاحب کرم

wa laka alkaramu

وَلَكَ الْأَمْرُ،

and to You do belong all affairs,

اور تو ہی امر کا مالک ہے

wa laka alamru

وَلَاكَ الْمَجْدُ،

and to You is glory,

تو ہی شان والا

wa laka almajdu

وَلَاكَ الشُّكْرُ ،

and to You is gratitude;

اور تو ہی لائق شکر ہے

wa laka alshshkru

وَحَدَاكَ لَا شَرِيكَ لَكَ،

**You are alone without having any
partner with You.**

تو یکتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے

wa hdaka la sharika laka

يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ

**O the One: O the Absolute: O the
Besought of all:**

اے یکتا، اے یگانہ، اے بے نیاز،

ya wahidu ya ahadu ya samadu

يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

**O He Who neither begets nor is He
begotten,**

ے وہ جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا

ya man lam yalid wa lam yulad

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ،

and there is none like to Him.

اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہو سکتا ہے

wa lam yakun lahu kufwan ahadun

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

(please do) bless Muhammad and the Household of Muhammad

حضرت محمد اور آل محمد پر رحمت فرما

salli `ala muhammadin wa ali muhammadin

وَاعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

and forgive me; and have mercy upon
me;

اور مجھے بخش دے مجھ پر رحمت فرما

waghfir li warhamny

وَإِكْفِي مَا أَهَمَّنِي

**and relieve me from whatever has
aggrieved me;**

کٹھن کاموں میں میری کفایت فرما

wakfiny ma ahammany

وَأَقْضِ دَيْنِي،

and help me settle my debt;

کردے میرا قرض ادا

waqdi dayni

وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي،

and expand my provisions;

میرے رزق میں کشائش فرما

wa wassi` `alayy fi rizqi

فَإِنَّكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ كُلَّ أَمْرٍ
حَكِيمٍ تَفْرُقُ،

for You, at this night, make distinct all
affairs of wisdom;

کہ تو اسی رات میں ہر حکمت والے کام کی تدبیر کرتا
ہے

*fa'innaka fi hadhihi allaylati kull amrin
hakimin tafruqu*

وَمَنْ تَشَاءُ مِنْ خَلْقِكَ تَرْزُقُ،

and You grant sustenance to
whomever You wish among Your
creatures.

اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے رزق و روزی
دیتا ہے،

wa man tasha'u min khalqika tarzuqu

فَارْزُقْنِي وَأَنْتَ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ،

**So, (please do) grant me sustenance
and You are verily the Best of
sustainers.**

پس مجھے بھی رزق دے کیونکہ تو ہی سب سے بہتر
رزق دینے والا ہے

farzuqny wa anta khayru alrraziqina

فَإِنَّكَ قُلْتَ وَأَنْتَ خَيْرُ
الْقَائِلِينَ النَّاطِقِينَ:

**You have said—and You are the Best
of those who speak and utter—**

یقیناً یہ تیرا ہی فرمان ہے اور تو بہتر ہے سب کہنے
والوں بولنے والوں میں

***fa'innaka qulta wa anta khayru alqa'ilina
alnnatiqina:***

(وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ)

“Ask Allah of His bounty.”

کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل میں سے

“*was-alu allaha min fadlihi*”

فَمِنْ فَضْلِكَ أَسْأَلُ،

I thus ask You of Your bounty;

پس میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں

famin fadlika as-alu

وَإِيَّاكَ قَصَدْتُ،

and to You do I turn my face;

اور بس تیرا ہی ارادہ رکھتا ہوں

wa 'iyyaka qasadtu

وَإِنِّ نَبِيَّكَ اعْتَمَدْتُ،

**and the intercession of Your Prophet's
son do I seek;**

تیرے نبی کے فرزند کو اپنا سہارا بناتا ہوں

wabna nabiyyka a`tamadtu

وَلَاكَ رَجَاؤُ،

and for You do I hope.

اور تجھی سے امید رکھتا ہوں

wa laka rajawtu

فَارْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

**So, (please do) have mercy upon me;
O the most Merciful of all those who
show mercy.**

پس مجھ پر رحم فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے
والے

farhamny ya arhama alrrahimina

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Alláh,
the All-beneficent, the All-merciful.**

bismi allahi alrrahmini alrrahimi

Short Du'a
Mafateeh Al Jinaan (Pg. 167)

اللَّهُمَّ اقسِمْنَا مِنْ
خَشِيَّتِكَ

*allahumma aqsim lana min
khashiyatika*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad
and the family of Muhammad.**

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Alláh,
the All-beneficent, the All-merciful.**

bismi allahi alrrahmini alrrahimi

اللَّهُمَّ اقسِمْنَا مِنْ خَشِيَّتِكَ

O Allah: (please do) grant us an amount of fearfulness of You

ہمیں اپنے خوف کا اتنا حصہ دے! اے معبود

allahumma aqsim lana min khashiyatika

مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
مَعْصِيَتِكَ،

that prevents us from committing acts
of disobedience to You;

جو ہمارے اور ہماری طرف سے تیری نافرمانی کے
درمیان رکاوٹ بن جائے

ma yahulu baynana wa bayna ma`siyatika

وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ
رِضْوَانَكَ،

and an amount of obedience to You
that makes us attain Your
satisfaction;

دے کہ اس سے ہم اور فرمانبرداری سے اتنا حصہ
تیری خوشنودی حاصل کر سکیں

*wa min ta`atika ma tuballghuna bihi
ridwanaka*

وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يَهْوُنُ عَلَيْنَا
بِهِ مُصِيبَاتُ الدُّنْيَا.

and an amount of conviction that help
us tolerate the vicissitudes of this
worldly life.

اور اتنا یقین عطا کر کہ جس کی بدولت دنیا کی تکلیفیں
ہمیں سبک معلوم ہوں

*wa mina aliyaqini ma yahunu `alayna bihi
musibatu alddunya*

اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا
وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا

**O Allah: (please do) make us enjoy our
hearings, sights, and powers**

ہمیں ہمارے کانوں نکھوں اور قوت سے! اے معبود
مستفید فرما

***allahumma amti`na biasma`ina wa absarina
wa quwwatina***

مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ
مِنَّا،

**so long as You decide to keep us alive;
and (please do) make it the inheritor
of us.**

کو ہمارا (ع)ور اس قائم رکھے زندہ ہمیں تو تک جب
وارث بنا

ma ahiyaytana waj`alhu alwaritha minna

وَاجْعَلْ تَارِنَا عَلَى مَنْ
ظَلَمْنَا،

**And (please do) make us avenge
ourselves against them who wrong
us;**

اور ان سے بدلہ لینے والا قرار دے جنہوں نے ہم پر ظلم
کیا

waj`al tharana `ala man zalamana

وَأَنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا،

**and back us against them who
antagonize us;**

ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما

wansurna `ala man `adana

وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي
دِينِنَا،

**and do not suffer misfortunes in
affairs of our religion;**

اور ہمارے دین میں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ لا

wa la taj`al musibatana fi dinina

وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا
وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا،

and do not make our worldly affairs
happen to be our greatest concern or
our utmost knowledge;

اور ہماری ہمت اور ہمارے علم کے لیے دنیا کو بڑا
مقصد قرار نہ دے

*wa la taj`ali alddunya akbara hammna wa la
mablagha `ilmina*

وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا
يَرْحَمُنَا،

**and do set him who does not have
mercy upon us as master over us;**

اور ہم پر اس شخص کو غالب نہ کر جو ہم پر رحم نہ
کرے

wa la tusallt `alayna man la yarhamuna

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

**in the name of Your mercy; O the most
Merciful of all those who show
mercy.**

واسطہ تیری رحمت کا اے سب سے زیادہ رحم والے۔

birahmatika yarhama alrrahimina

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Alláh,
the All-beneficent, the All-merciful.**

bismi allahi alrrahmini alrrahimi

*Salawaat taught By
Imam Zainul Abideen (A.S)
Mafateeh Al Jinaan (Pg. 156)*

شَجَرَةُ النَّبِيِّ

shajarati alnnbuwwati

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad
and the family of Muhammad.**

محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما ! اے معبود

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Alláh,
the All-beneficent, the All-merciful.**

bismi allahi alrrahmini alrrahimi

شَجَرَةُ النَّبُوَّةِ،

the tree of Prophethood;

نبوت کا شجر

shajarati alnnbuwwati

وَمَوْضِعِ الرِّسَالَةِ،

and the trustees of the (Divine)
Mission;

مقام کا رسالت

،

wa mawdi`i alrrisalati

وَمُخْتَلَفِ الْمَلَائِكَةِ،

and the frequently visited by the
angels;

فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ

wa mukhtalafi almala'ikati

وَمَعْدِنِ الْعِلْمِ،

and the core of knowledge;

علم کے خزانے

wa ma`dini al`ilmi

وَأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ .

**and the Household of the Divine
Revelation.**

اور خانہ وحی میں رہنے والے ہیں

wa ahli bayti alwahii

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O Allah: (please do) send blessings
upon Muhammad and the Family of
Muhammad—**

محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما! اے معبود

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

الْفُلُكِ الْجَارِيَةِ فِي الْجَبِّ الْغَامِرَةِ،

**the sailing ships through the abysmal
waves.**

جو بے پناہ بہنوروں میں چلتی ہوئی کشتی ہیں

alfulki aljariyati fi allujaji alghamirati

يَأْمَنُ مَنْ رَكِبَهَا،

He who embarks on will be saved

کہ بچ جائے گا جو اس میں سوار ہوگا

yamanu man rakibaha

وَيَغْرَقُ مَنْ تَرَكَهَا،

but he who abandons will be drowned.

اور غرق ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا

wa yaghraqu man tarakaha

الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَارِقٌ،

**He who precedes them will miss the
Right Path**

ان سے آگے نکلنے والا دین سے خارج

almutaqaddmu lahum mariqun

وَالْمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ،

and he misses them will lose

اور ان سے پیچھے رہ جانے والا نابود ہو جائے گا

wal-mutakhkhru `anhum zahiqun

وَاللَّازِمُ لَهُمْ لَاحِقٌ.

but he who adheres to them will win.

اور ان کے ساتھ رہنے والا حق تک پہنچ جائے گا

wal-lazimu lahum lahiqun

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O Allah: (please do) send blessings
upon Muhammad and the Household
of Muhammad—**

محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما! اے معبود

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

الكَهْفِ الْحَصِينِ،

the impregnable shelter;

جو پائیدار جائے پناہ

alkahfi alhasini

وَغِيَاثِ الْمُضْطَّرِّ الْمُسْتَكِينِ،

**and the succorers of the helpless,
distressed ones;**

اور پریشان و بے چارے کی فریاد کو پہنچنے والے،

wa ghiyathi almudtarr almustakini

وَمَلْجَأَ الْهَارِبِينَ،

and the haven of the fugitives;

بھاگنے اور ڈرنے والے کیلئے جائے امان

wa malja alharibina

وَعِصْمَةَ الْمُعْتَصِمِينَ .

and the asylum of those who seek
refuge.

اور ساتھ رہنے والوں کے نگہدار ہیں

wa `ismati almu`tasimina

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O Allah: (please do) send blessings
upon Muhammad and the Household
of Muhammad**

اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

صَلَاةٌ كَثِيرَةٌ تَكُونُ لَهُمْ
رِضًا،

so much blessings that please them

بہت بہت رحمت کہ جو ان کے لیے وجہ خوشنودی

salatan kathiratan takunu lahum ridan

وَلِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
أَدَاءً وَقَضَاءً

**and settle all (our) duties towards
Muhammad and the Household of
Muhammad**

کے واجب حق کی ادائیگی (ع) اور محمد و آل محمد

***wa lihaqq muhammadin wa ali
muhammadin ada'an wa qada'an***

بِحَوْلٍ مِنْكَ وَقُوَّةٍ يَا رَبِّ
الْعَالَمِينَ .

by Your might and power; O the Lord
of the worlds.

اور اس کے پورا ہونے کا موجب بنے تیری قوت و
طاقت سے اے جہانوں کے پروردگار

*bihawlin minka wa quwwatin ya rabb
al`alamina*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O Allah: (please do) send blessings
upon Muhammad and the Household
of Muhammad—**

اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

الطَّيِّبِينَ الْأَبْرَارِ الْأَخْيَارِ،

the pure, the pious, the righteous

جو پاکیزہ تر، خوش کردار اور نیکو کار ہیں

al-tayyibina al-abrari al-akhyari

الَّذِينَ أَوْجَبْتَ حُقُوقَهُمْ،

whose rights have been made
incumbent upon us by You

جن کے حقوق تو نے واجب کیے

alladhina awjabta huquqahum

وَفَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَوِلَايَتَهُمْ .

and the obedience to whom has been deemed obligatory upon us by You and whose (divinely commissioned) leadership has been (also) deemed obligatory upon us by You.

اور تو نے ان کی اطاعت اور محبت کو فرض قرار دیا

ہے

wa faradta ta`atahum wa wilaiyatahum

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O Allah: (please do) send blessings
upon Muhammad and the Household
of Muhammad;**

اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

وَاعْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ،

and fill in my heart with the obedience
to You;

اور میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد فرما

wa a`mur qalby bita`atika

وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ،

and do not disgrace me by acts of
disobedience to You;

اپنی نافرمانی سے مجھے رسوا و خوار نہ کر

wa la tukhziny bima`siyatika

وَأَرْزُقْنِي مَوَاسَاةً مِّنْ قَطْرَتٍ
عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ

and grant me the feeling of sympathy
towards those whom You have
decided to straiten their sustenance

اور جس کے رزق میں تو نے تنگی کی ہے مجھے اس
سے ہمدردی کرنے کی توفیق دے

*warzuqny mwasata man qattrta `alayhi min
rizqika*

بِمَا وَسَّعْتَ عَلَيَّ مِنْ
فَضْلِكَ،

by means of Your favors that You have
decided to make expansive for me

کیونکہ تو نے اپنے فضل سے میرے رزق میں فراخی
کی

bima wa ss`ta `alayy min fadlika

وَنَشَرْتُ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ،

and by means of that with which You
have covered me out of Your
fairness;

مجھ پر اپنے عدل کو پھیلا یا

wa nasharta `alayy min `adlika

وَأَحْيَيْتَنِي تَحْتَ ظِلِّكَ،

and make me live under Your shade.

اور مجھے اپنے سائے تلے زندہ رکھا

wa ahiyaytany tahta zillka

وَهَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ سَيِّدِ رُسُلِكَ

**This is the month of Your Prophet and
the Master of Your Messengers.**

اور یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے جو تیرے رسولوں کے
سردار ہیں

wa hadha shahru nabiyyka sayyidi rusulika

شَعْبَانُ الَّذِي حَفَفْتَهُ مِنْكَ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ

It is Sha`ban, which You have
encompassed with Your mercy and
pleasure,

یہ ماہ شعبان جسے تو نے اپنی رحمت اور رضامندی
کے ساتھ گھیرا ہوا ہے

*sha`banu alladhy hafaftahu minka
bilrrahmati wal-rridwani*

الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

and on which the Messenger of Allah—
peace and blessings be upon him
and his Family—

یہ وہی مہینہ ہے جس میں حضرت رسول ﷺ

*alladhy kana rasulu allahi salla allahu
`alayhi wa alihi wa sallama*

يَذَابُ فِي صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ

**used to observe fasting painstakingly
and used to spend it with acts of
worship**

قيام کیا کرتے روزے رکھتے اور صلوة فروتنی سے
تھے

yad'abu fi siamihi wa qiamihi

فِي لَيَالِيهِ وَأَيَّامِهِ

on all of its days and night

اس کے ہر دن اور رات میں

fi layalihi wa ayyamihi

بُخُوعاً لَكَ فِي إِكْرَامِهِ
وَإِعْظَامِهِ إِلَى مَحَلِّ حِمَامِهِ.

on account of Your honoring and
dignifying this month, up to his
death.

تیری فرمانبرداری اور اس مہینے کے مراتب و درجات
کے باعث وہ زندگی بھر ایسا ہی کرتے رہے

*bukhu`an laka fi ikramihi wa i`zamihi ila
mahall himamihi*

اللَّهُمَّ فَاعِنَّا عَلَى الْإِسْتِثَانِ
بِسُنَّتِهِ فِيهِ،

O Allah: (please do) help us follow the example of him (i.e. the Holy Prophet as regards the honoring of this month)

مہینے میں ہمیں ان کی سنت کی پیروی پس اس! اے معبود

***allahumma fa`inna `ala alastinani bisunntihi
fihi***

وَنَيْلِ الشُّفَاعَةِ لَدَيْهِ.

and help us attain nearness to him.

اور ان کی شفاعت کے حصول میں مدد فرما

wa nayli alshshfa`ati ladayhi

اللَّهُمَّ وَاجْعَلْهُ لِي شَفِيعاً
مُشَفَّعاً،

**O Allah: (please do) decide him as my
interceder (before You) whose
intercession for me is acceptable**

اے معبود؛ آنحضرت کو میرا شفیع بنا جن کی شفاعت
ہے مقبول

allahumma waj`alhu li shafi`an mushaffa`an

وَطَرِيقًا إِلَيْكَ مَهِيْعًا،

and as my clear path toward You;

اور میرے لیے اپنی طرف کھلا راستہ قرار دے

wa tariqan ilayka mahiya`an

وَاجْعَلْنِي لَهُ مُتَّبِعًا حَتَّى أَقْصَاكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنِّي رَاضِيًا،

and make me follow him until I meet You
on the Resurrection Day enjoying Your
pleasure with me

مجھے انکا سچا پیروکار بنادے یہاں تک کہ میں روز قیامت
ہو راضی مجھسے تو جبکہ تیرے حضور پیش ہوں

*waj`alny lahu muttbi`an hatta alqaka yawma
alqiamati `anni radiyan*

وَعَنْ دُنُوبِي غَاضِيًا،

and Your overlooking my sins

اور میرے گناہوں سے چشم پوشی کرے

wa `an dhunuby ghadiyan

قَدْ أَوْجَبْتِ لِي مِنْكَ الرَّحْمَةَ
وَالرِّضْوَانَ،

and thus You will confer upon me with
Your mercy and pleasure

ایسے میں تو نے میرے لیے اپنی رحمت اور خوشنودی
لازم کر رکھی ہو

*qad awjabta li minka alrrahmata wal-
rridwana*

وَأَنْزَلْتَنِي دَارَ الْقَرَارِ وَمَحَلِّ
الْأَخْيَارِ .

and allow me to reside in the Eternal
Abode and the Place of the
Righteous.

اور مجھے دارالقرار اور صالح لوگوں کے ساتھ رہنے
کی مہلت دے

*wa anzaltany dara alqarari wa mahall al-
akhyari*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad
and the family of Muhammad.**

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

دُعَاءُ كُمْيَلٍ

Dua'a Kumayl



Dua Kumayl

Allamah Majlisi:

“This is the best
of all Supplications”

Taught by Imam Ali(A)
to his companion
Kumayl Bin Ziad.

It is useful for protecting
against the evil of
enemies, for increasing
sustenance & for
fogiveness of sins

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

*subh'aanallah walh'amdu lillah
wallahu akbar wa laa-llaaha-illallah*

Recite 100 times

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad
and the family of Muhammad.**

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لِلَّهِ
أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

**Glory be to Alláh. All praise be to Alláh.
Alláh is the Greatest. There is none
worthy of worship besides Alláh.**

*subh'aanallah walh'amdu lillah wallahu
akbar wa laa-llaaha-illallah*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad
and the family of Muhammad.**

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

Short Du'a
Mafateeh Al Jinaan (Pg. 169)

إِلَهِي تَعَرَّضْ لَكَ فِي هَذَا
الَّيْلِ الْمُتَعَرِّضُونَ،

ilahy ta`arrada laka fi hadha allayli
almuta`arriduna

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**O' Alláh send Your blessings on
Muhammad
and the family of Muhammad.**

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Alláh,
the All-beneficent, the All-merciful.**

bismi allahi alrrahmini alrrahimi

إِلَهِي تَعَرَّضَ لَكَ فِي هَذَا
الَّيْلِ الْمُتَعَرِّضُونَ،

**O Allah: tonight the seekers of favors,
restless and eager, present
themselves to You;**

طلب کرنیوالوں نے آج رات خود کو! میرے معبود
تیرے ہی سامنے پیش کیا ہے۔

*ilahy ta`arrada laka fi hadha allayli
almuta`arriduna*

وَقَصَدَكَ الْقَاصِدُونَ،

**the determined aspirers have You in
mind;**

ارادہ کرنیوالوں نے تیری ہی بارگاہ کا ارادہ کیا ہی

wa qasadaka alqasiduna

وَأَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبُونَ،

**those who make requests look long
and attentively at Your obligingness
and kindness;**

ہی فضل و احسان سے امید اور حاجتمندوں نے تیری
باندھی ہوئی ہے

wa ammla fadlaka wa ma`rufaka alttalibuna

وَلَاكَ فِي هَذَا اللَّيْلِ نَفَاحَاتٌ
وَجَوَائِزٌ

**You, in this night, give gifts, bounties
beyond measure,**

آج کی رات تیری مہربانیاں، تیری بخشش

***wa laka fi hadha allayli nafahatun wa
jawa'izu***

وَعَطَايَا وَمَوَاهِبُ

free donations, and favors,

تیری عطائیں اور تیرے ہی انعام ہیں

wa `ataya wa mawahibu

تَمُنُّ بِهَا عَلَيَّ مَنْ تَشَاءُ مِنْ
عِبَادِكَ،

to those whom You will from among
Your servants when they make a
request,

کہ تو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے ان سے احسان
فرمائے

tamunnu biha `ala man tasha'u min `ibadika

وَتَمَنَعُهَا مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ
الْعِنَايَةَ مِنْكَ،

and say no to those who do not try to
get in advance (remain behind) for
obtaining the bounties from You.

ور جس پر تیری توجہ اور عنایت نہ ہوئی ہو اس سے
روک لے

*wa tamna`uha man lam tasbiq lahu
al`inaiyatu minka*

وَهَا أَنَا ذَا عُبَيْدِكَ الْفَقِيرُ
إِلَيْكَ

I, a modest needy bondman,

اور یہ میں ہوں تیرا حقیر بندہ

wa ha ana dha `ubayduka alfaqiru ilayka

الْمُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ،

**am hopeful of Your obligingness and
kindness.**

کہ تیرا محتاج ہوں اور تیرے فضل و احسان کی امید وار
ہوں

almu`ammilu fadlaka wa ma`rufaka

فَإِنْ كُنْتَ يَا مَوْلَايَ تَقْضُتْ فِي
هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ

Indeed if You, O My Master, bestows a favor
on any one, in this night, from among
Your created beings,

اگر آج کی رات میں تو اپنی مخلوق میں! پس اے میرے مولا
کسی پر فضل و کرم کرے

*fain kunta ya mawlaiya tafaddalta fi hadhihi
allaylati `ala ahadin min khalqika*

وَعُدَّتْ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ
عَطْفِكَ

and multiply profits and gains for him
out of love and affection,

ور اس کو انعام عطا فرمائے اور وہ انعام عطا فرمائے
جو تیری مہربانی کے ساتھ ہو

wa `udta `alayhi bi`a'idatin min `atfika

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

**please send blessings upon
Muhammad and the Household of
Muhammad:**

تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما

***fasalli `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْخَيْرِينَ الْفَاضِلِينَ،

the pure, the immaculate, the virtuous,
and the righteous;

جو پاکیزہ ہیں، نیکو کار ہیں اور با فضیلت ہیں

alittiyyibina alttahirina alkhayyrina alfadilina

وَجُدُّ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ

and then let me have enough and be
contented on account of Your
liberality and obligingness,

اور اپنے فضل اور احسان سے مجھ پر بخشش کر

wa jud `alayya bitawlika wa ma`rufika

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ،

O Lord of the worlds!

اے جہانوں کے پالنے والے

ya rabba al`alamina

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ

**May Allah send blessings upon
Muhammad, the seal of the Prophets,
اور محمد پر اللہ کی رحمت ہو جو نبیوں میں آخری نبی ہیں
*wa salla allahu `ala muhammadin khatami
alnnabiyyina***

وَأَلِيهِ الطَّاهِرِينَ

**and upon his Household, the
immaculate,**

پر جو پاکیزہ ہیں (ع) اور ان کی آل

wa alihi alttahirina

وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

and may He exalt them very much.

اور سلام ہو بہت سلام

wa sallama tasliman

إِنَّ اللَّهَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

**verily, Allah is worthy of all praise, full
of all glory.**

بے شک اللہ خوبی والا اور شان والا ہے

inn allaha hamidun majidun

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتِ

**O Allah: I am praying You as You
ordered me to do,**

میں تجھ سے دعا کرتا ہوں! اے معبود

allahumma inni ad`uka kama amarta

فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَّ

**So, (please) respond to me as You
promised.**

جیسے تو نے حکم دیا تو اپنے وعدے کے مطابق اسے
قبول فرما

fastajib li kama wa`adta

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

verily, You never break Your promise.

کرتا نہیں ورزی خلاف کی وعدے اپنے تو کیونکہ

innaka la tukhlifu almi`ada

وَصَلَّىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ
مُحَمَّدٍ

**Allah may send blessings upon
Muhammad and the Household of
Muhammad.**

***wa salla allahu `ala muhammadin wa ali
muhammadin***

***PLEASE GO INTO
SAJDAH***

And recite:

سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي،

**Prostrating before You are my body
and my shadow**

اور میرے خیال نے سجدہ کیا تیرے آگے میرے بدن

sajada laka sawady wa khayali

وَأَمَّنَ بِكَ فُؤَادِي،

and my heart is in full faith of You

اور ایمان لایا ہے تجھ پر میرا دل

wa amana bika fu'adi

هَذِهِ يَدَايِ وَمَا جَنَيْتُهُ عَلَى
نَفْسِي،

**These are my two hands and this is
what I have committed against
myself,**

یہ ہیں میرے دونوں ہاتھ اور جو ستم میں نے خود پر کیا
ہے

hadhihi yadaiya wa ma janaytuhu `ala nafsi

يَا عَظِيمُ تُرْجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ

**O the All-great: You are hoped for all
enormous things;**

والے جس سے امید ہے بڑے کام کی اے بڑائی

ya `azimu turja likulli `azimin

اغْفِرْ لِي الْعَظِيمَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ الْعَظِيمَ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ

forgive my serious offences because, beyond a shadow of doubt, no one can forgive the grave transgression except the Great Lord.

تو میرے بڑے بڑے گناہ بخش دے کیونکہ بڑے گناہوں کو سوائے بڑائی والے پروردگار کے کوئی بخش نہیں سکتا۔

*ighfir liyal a'z'eemafa—innahu laa
yaghfirud'd'anbal a'z'eema illar rabbul
a'z'eem*

***SIT & PLEASE
GO INTO SAJDAH
AGAIN***

And recite:

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَتْ
لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ

**I adhere close to the Light of Thy
Being that had illuminated the
heavens and the earths,**

پناہ لیتا ہوں میں تیرے نورِ ذات کی جس سے آسمانوں
اور زمینوں نے روشنی حاصل کی

**a—o'od'u binoori wajhikalladee az"aaa-at
lahus samaawaatu wal arz"oona**

وَانْكَشَفَتْ لَهٗ الظُّلُمَاتُ

removed and exposed the darkness,

اور جس سے تاریکیاں چھٹ گئیں

wan—kashafat lahuz' z'ulumaatu

وَصَلِّحْ عَلَيْهِ أَمْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

put in order the “operation”, from the beginning to the end,

اور اسکی بدولت اولین اور آخرین کا کام بن گیا

*wa s'alah'a a'layhi amrul awwaleena wal
aakhireen*

مِنْ فُجَاءَةٍ نِقْمَتِكَ

at all times free from violent and unexpected changes to the worse,

کہ وہ تیرے ناگہانی عذاب سے امن کے چہن جانے

min fujaa—ati naqimatika

وَمِنْ تَخْوِيلِ عَافِيَتِكَ

absence of recovery and adjustment

wa min tah'weeli a'afiyatika

وَمِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ

and discontinuation of the supply of
natural resources.

اور تیری نعمتوں کے زائل ہو جانے کی سختیوں سے بچ
گئے

wa min zawaali nia'—matika

اللَّهُمَّ اِزُقْنِي قَلْبًا تَقِيًّا نَقِيًّا

O Alláh give me a knowing fearing,
clean conscience,

پاک اور پرہیزگار دل دے مجھے! اے معبود

*allaahummar—zuqnee qalban taqiyyan
naqiyyan*

وَمِنَ الشِّرْكِ بَرِيًّا لَا كَافِرًا
وَلَا شَقِيًّا .

**free from hypocrisy, which is neither
renegade nor villainous.**

کہ جو شرک سے پاک ہو اور نہ حق سے انکاری ہو نہ
بے رحم ہو۔

***wa minash shirki baree—an laa kaafiran wa
laa shaqiyyaa***

***THEN KEEP YOUR
RIGHT CHEEK ON
THE SAJDAGAH
(MOHR)
and recite:***

عَفَرْتُ وَجْهِي فِي التُّرَابِ
وَحُقُّ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ

I put my face on the earth and roll in the dust because it is imposed as a duty that I prostrate myself in adoration before Thee

میں نے اپنے چہرے کو خاک پر رکھا ہے اور میرے لیے
ضروری ہے کہ تیرے آگے سجدہ کروں

*affartu waj-hee fit-turaab wa-huqqalee an
as-juda lak*

***THEN KEEP YOUR
LEFT CHEEK ON
THE SAJDAGAH
(MOHR)
and recite:***

عَفَرْتُ وَجْهِي فِي التُّرَابِ
وَحُقُّ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ

I put my face on the earth and roll in the dust because it is imposed as a duty that I prostrate myself in adoration before Thee

میں نے اپنے چہرے کو خاک پر رکھا ہے اور میرے لیے
ضروری ہے کہ تیرے آگے سجدہ کروں

*affartu waj-hee fit-turaab wa-huqqalee an
as-juda lak*

***Short Dua to be recited
from
tonite until rest of the
month
Mafateeh Al Jinaan (pg.
170)***

اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنَا
فِي مَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ

**O Alláh if You have forgiven us during
the previous days of Shaaban,**

***allaahumma in lam takun ghafarta lanaa
feema maz'aa min sha'—baana***

فَاغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ

**then please be merciful to us in the
days now follow.**

faghfirlanaa feema baqiya minhu

ADDITIONAL A'AMAAL - (These can be performed individually)

Recite 4 Rakaat Namaaz (2 Namaaz of 2 rakaats each) - In each rakaat after Surah Al-Hamd recite 100 times Surah Al-Ikhlaas (Qul huwAlláhu ahad).

On completion recite Du'a (Mafateeh Al Jinaan pg.170) "ALLAAHUMMA INNEE ILAYKA - - - - -"

Recite 100 Rakaat Namaaz (50 Namaaz of 2 rakaats each) - In each rakaat after Surah Al-Hamd recite 10 times Surah Al-Ikhlaas (Qul huwAlláhu ahad)..

ADDITIONAL A'AMAAL - (These can be performed individually)

Recite 6 Rakaat Namaaz (3 Namaaz of 2 rakaats each) - In each rakaat after Surah Al-Hamd recite following 3 Surah : Surah Al-Yaaseen x1, Surah Al-Mulk x1, and Surah Al-Ikhlaas x1.

Recite Namaaze Shab.

Keep awake the whole night with prayers and repentance to Allaah.

Keep Fast on 15th Shabaan day.

آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 15
 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کا رزق ، زندگی اور
 موت اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے معاملات میں
 فیصلے کرتا ہے۔ "شب قدر" کے بعد 15 شعبان کی
 رات سب سے زیادہ با برکت ہے (جسے "شب برات"
 بھی کہا جاتا ہے)۔ امام محمد بن علی الباقر (ع)
 اور امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کے
 مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج رات اس کے سامنے
 پیش کی جانے والی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کا
 وعدہ کیا ہے

غسل کریں

عشاء کی نماز کے بعد ۲ رکعت نماز پڑھیں جس میں پہلی رکعت میں سورۃ حمد کے بعد سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھیں۔ پھر اس شکل میں تسبیح کریں: سبحان اللہ (۳۳ مرتبہ)، الحمد للہ (۳۳ مرتبہ) اور اللہ اکبر (۳۴ مرتبہ)

زیارتِ امام حسین (ع) (مفاتیح الجنان صفحہ ۴۳۸)۔ "السلامُ عَلَیْكَ یَبْنَ...۔" پڑھیں اور اس کے بعد ۲ رکعت نمازِ زیارت ادا کریں

نمازِ جعفرِ طیار پڑھیں (مفاتیح الجنان) ۴۶

حاجات

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

و خدای شما فرمود که مرا با (خلوص نیت) بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم

سوره طه آیه ۶۰

Please recite
Sūrat al-Fātiḥah
for
ALL MARHUMEEN



For any errors / comments please write to: duas.org@gmail.com

Kindly recite Sura E Fatiha for Marhumeen of all those who have worked towards making this small work possible.
To display the font correctly, please use the Arabic font "[Attari Quran Shipped](#)", Urdu font "[Alvi Nastaleeq](#)" & Hindi font "Mangal". Download font here : <http://www.duas.org/fonts/>